



Noble Quran الْقُرْآنُ الْحَكِيمُ

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir) (حضرت شاہ عبدالقادر) اردو ترجمہ بمعہ عربی

سورة الجمعة بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

1. اللہ کی پاکی بولتا (تسبیح کرتا) ہے جو کچھ آسمانوں میں (ہے) اور زمین میں،
(اللہ جو) بادشاہ (ہے)، پاک ذات، زبردست حکمت والا۔

2. وہی ہے جس نے اٹھایا ان پڑھوں (اُمیوں) میں ایک رسول اُن ہی میں کا (سے)،
پڑھتا ان پاس اس کی آیتیں اور ان کو سنوارتا اور سکھاتا کتاب اور عقلمندی۔
اور اس سے پہلے تھے وہ صریح بھلاوے (گر اہی) میں۔

3. اور ایک اوروں کے واسطے انہی میں سے جو ابھی نہیں ملے ان میں۔
اور وہی ہے زبردست حکمت والا۔

4. یہ بڑائی اللہ کی ہے، دیتا ہے جس کو چاہے۔
اور اللہ کا فضل بڑا ہے۔

5. کہات انکی جن پر لادی تورات، پھر نہ اٹھائی انہوں نے، جیسے کہات گدھے کی، پیٹھ پر لے چلتا ہے کتابیں۔
بُری کہات ہے ان لوگوں کی، جنہوں نے جھٹلائیں اللہ کی باتیں۔

اور اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو۔

6. تو کہہ، اے یہود! اگر تم دعویٰ کرتے ہوئے کہ تم دوست ہو اللہ کے سب لوگوں کے سوا، تو مناد (تمنا کرو) مرنے کو، اگر تم سچے ہو۔

7. اور کبھی نہ مناویں (تمنا کریں) گے مرنا، جس واسطے آگے بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ۔ اور اللہ کو خوب معلوم ہیں گناہگار۔

8. تو کہہ، موت وہ ہے جس سے تم بھاگتے ہو، سو وہ تم سے ملنی ہے، پھر پھیرے (پیش کئے) جاؤ گے اُس چھپا اور کھلا جانے والے پاس، پھر جتائے گا تم کو جو کرتے تھے۔

9. اے ایمان والو! جب اذان ہو نماز کی دن جمعہ کے تو دوڑو اللہ کی یاد کو اور چھوڑ دو بیچنا۔ یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم کو سمجھ ہے۔

10. پھر جب تمام ہو چکے نماز تو پھیل پڑوز میں اور ڈھونڈو فضل اللہ کا، اور یاد کرو اللہ کو بہت ساء شاید تمہارا بھلا ہو۔

11. اور جب دیکھیں سودا بننا یا تماشاء، کھنڈ (لپک) جائیں اسکی طرف اور تجھ کو چھوڑ جائیں کھڑا۔ تو کہہ، جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے تماشے سے، اور سودے سے۔ اور اللہ بہتر ہے روزی دینے والا۔
